



## سوال

(522) نماز کے بعد سورۃ الصافات کی آخری تین آیات کی تلاوت کا حکم

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا سُبحان رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (۱۸۰) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (۱۸۱) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۸۲) [الصفّت: ۸۰ تا ۱۸۱] نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ثابت ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حافظ ابن کثیر نے بحوالہ طبرانی نقل فرمایا ہے: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: سُبحان رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (۱۸۰) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (۱۸۱) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۸۲) ”پاک ہے تیرا رب عزت والا اور غلبہ والا اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلامتی ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهَذَا كُنْتَالِ بِالنَّجْرِيبِ الْأَوْثِيِّ مِنَ الْأَجْزِ (صحیح ترمذی)

”جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرے اسے بھرپور اجر پورے پیمانے سے ناپ کلمے گا۔“

مگر اس کی سند کا حال مجھے فی الحال معلوم نہیں۔

## فتاویٰ علمائے حدیث

## کتاب الصلاة جلد 1

## محدث فتویٰ